

ASAP (اے ایس اے پی) کے اقرار نامے پر دستخط کرنے کی رہنمائی

آج آپ کی اپیل میں آپ کی مدد کرنے کے لیے، اس اقرار نامے پر آپ کا دستخط کرنا لازمی ہے۔ اس فارم پر دستخط کر کے، آپ ہمیں اجازت دیتے/دیتی ہیں کہ ہم آپ کے کاغذات کو دیکھیں۔ ہم آپ کے کاغذات کو پڑھنے کے بغیر آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جب ہم آپ کے کاغذات پڑھ لیں گے اور آپ کے مقدمے کے متعلق آپ سے بات چیت کر لیں گے، تو ہم مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ آیا آپ کے بہترین مفاد میں یہ ہو گا کہ سماعت میں ہم آپ کی نمائندگی کریں یا آپ کا خود پیش ہونا بہتر ہے۔

ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے دستخط کے نیچے والے دونوں خانوں میں بھی ٹک کا نشان لگا دیں۔ آپ درج ذیل میں سے ایک کام کر سکتے ہیں:-

- کوئی بھی خانہ ٹک نہ کریں (اگر آپ ایسا کرتے ہیں، تو پھر بھی آج ہم آپ کی مدد کریں گے)
- دونوں خانوں میں ٹک کر دیں
- صرف ایک خانے میں ٹک کریں (پہلا یا دوسرا)

پہلے خانے میں آپ کو ٹک کرنے کا کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو اجازت مل جائے کہ ہم اگر چاہیں تو مستقبل میں آپ سے دوبارہ رابطہ کر سکیں۔ ہم اپنے زیادہ تر موکلوں سے رابطہ نہیں کرتے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہو گی:

- ہماری سروسز کے بارے میں فیڈبیک (اپنی رائے کا اظہار کرنا) یا
- اس بارے میں معلومات کہ اپیل میں جیتنے کے بعد آپ کو کتنی جلدی سپورٹ (رہائش اور مالی امداد) حاصل ہوئی تھی یا
- دیگر کوئی وجہ

دوسرے خانے میں ٹک کا نشان لگانے کے بارے میں آپ کو کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام میں بہتری لا سکیں اور مستقبل میں زیادہ اسایلم سیکرز کی مدد کر سکیں۔

ہوم آفس کے ساتھ رابطے میں ہم **صرف** آپ کی اپیل کی مثال استعمال کریں گے، ہم ایسا تب کریں گے جب ہمیں یقین ہو کہ اس سے آپ کے موجودہ یا مستقبل کے کسی حق کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم ہوم آفس کی فیصلہ سازی میں ان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، جہاں وہ غلط طور پر کسی کی سپورٹ سے انکار کرتے ہیں، تو وہاں پر ہم ان کو مثالیں پیش کرتے ہیں۔ ایسا ہم مستقبل میں اسایلم سپورٹ کے لیے درخواست دینے والوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں۔

Asylum Support Appeals Project, Studio 11/12, Container City Building

Trinity Buoy Wharf, London, E14 OFN 48

tel: 020 3716 0284 | fax: 020 3716 0272 | www.asaproject.org

email: referrals@asaproject.org.uk

Company registered in England and Wales number 04763838 | Registered charity number 1105625

For more information about how we use your data, please read our Privacy Notice: www.asaproject.org/privacy